



Australian Government


آپ کوکرونا وائرس سے بچانکے لیے۔



باقاعدگی سے سطحیں صاف کرتے رہیں



باقاعدگی سے صابن اور پانی سے
ہاتھ ہوتے رہیں



لوگوں سے فاصلہ برقرار رکھیں



COVIDSAFE ایپ ڈاؤنلوڈ کریں



اگر آپکی طبیعت خراب ہو تو گھر میں رہیں
اوٹیسٹ کروائیں



اپنی بازو کی اوٹ میں کھانسی یا چھینکیں



BE COVIDSAFE

کرونا وائرس (COVID-19)، کے بارے میں مزید معلومات کے لیے
براہ مہربانی [health.gov.au](https://www.health.gov.au) دیکھیں